



سوال

(642) اعصابی مریض

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

طیب کے بقول ایک شخص پرانے اعصابی مرض میں مبتلا ہے اور اس مرض کے باعث وہ والدین سے بدکلامی کرتا ہے، رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتا ہے اور قلع و اضطراب، ڈر اور خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا مذکورہ بالا بیماری کی وجہ سے یہ شخص اب احکام شرعیہ کا مکلف نہیں ہے؟ آپ اسے کیا نصیحت کریں گے؟ جزاکم اللہ خیراً۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جب تک اس شخص کی عقل کام کرتی رہے گی، یہ احکام شرعیہ کا مکلف رہے گا اور جب تک اس کی عقل بالکل زائل ہو جائے اور عقل پر اسے کوئی دسترس نہ رہے تو پھر یہ شخص واقعی معذور ہوگا۔ میں اسے نصیحت کرتا ہوں دعا، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور استغفار کثرت سے کرے اور شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی اس وقت پناہ مانگے جب اس کا غصہ بھڑک اٹھے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو دور فرمادے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

ج 4 ص 488

محدث فتویٰ